



سوال

(385) خاوند کی وفات والی عدت اور دوسری عدت گزارنے والی عورت کے حج پر جانے کا حکم

جواب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے کیا دوران عدت اس کے لیے حج کرنا جائز ہے؟ اور وفات کے علاوہ دوسری کسی عدت والی عورت کے لیے اس عدت کے دوران دوسری حج جائز ہے؟

الجواب بعون الوہاب بشرط صحیح السؤال

و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته!

الحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله، أما بعد!

جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی نسبت حکم یہ ہے کہ اس کے لیے عدت بوری ہونے سے پہلے گھر سے نکلنا اور حج کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اس حالت میں حج کی طاقت رکھنے والی شمار نہیں ہو گئی اس لیے کہ اس حالت میں اس پر گھر میں رہ کر عدت گزارنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ أَزْوَاجَهُنَّا بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا... ۲۳۴ ... سورة البقرة

"اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جائیں اور بیویاں بمحروم جائیں وہ (بیویاں) ملپنے آپ کو چار مہینے اور دس راتیں انتظار میں رکھیں۔"

پس اس کے لیے عدت بوری ہونے تک ملپنے گھر میں رہ کر عدت بوری ہونے کا انتظار کرنا واجب ہے رہی خاوند کی وفات کے علاوہ دوسری عدت گزارنے والی عورت بلاشبہ رحمی طلاق تو اس کو بیوی کے حکم میں ہی رکھتی ہے لہذا ملپنے خاوند کی اجازت کے بغیر سفر نہ کرے لیکن اس کے خاوند پر کوئی حرج نہیں کہ وہ مصلحت کے پیش نظر اس کو اس کے محروم کے ساتھ حج کرنے کی اجازت دے لیکن طلاق باہنسہ کی عدت گزرنے والی عورت پس بلاشبہ مشروع یہ ہے کہ وہ بھی ملپنے گھر میں ٹھہری رہے لیکن جب اس کا خاوند اتفاق کرے تو وہ حج کے لیے جاسکتی ہے کیونکہ اس عدت میں اس کو حق حاصل ہے پس اگر وہ عورت کو اجازت دیتا ہے تو اس عورت پر کوئی حرج نہیں۔

حاصل یہ ہوا کہ جس کا خاوند فوت ہو جائے اس پر واجب ہے کہ وہ گھر میں ٹھہرے باہر مت نکلے لیکن رحمی طلاق والی عورت پس وہ بیوی کے حکم میں ہے اور اس کا معاملہ اس کے خاوند کے سپرد ہے اور طلاق باہنسہ والی عورت اس کو طلاق رحمی والی عورت سے زیادہ آزادی حاصل ہے لیکن اس کے باوجود اس کا خاوند اس کی عدت کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو سفر حج سے روک سکتا ہے۔ (فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح اللشیمی رحمۃ اللہ علیہ)

هذا عندی والله اعلم بالصواب



جعْلَتْ فِلَقِي
الرَّأْيَ إِيمَانًا

عورتوں کے لیے صرف

صفحہ نمبر 330

محدث فتویٰ